



## Luqman

## لقمان

## لُقْمٰن

In the name of Allah,  
Most Gracious, Most  
Merciful.

اللہ کے نام سے جو بہت مہربان  
نہایت رحم والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1. Alif. Lam. Mim.

الْم -

الْم

2. These are revelations  
of the wise Book.

یہ ہیں آیات پر حکمت کتاب کی۔

تِلْكَ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ الْحَكِیْمِ

3. A guidance and a  
mercy for the righteous  
people.

ہدایت اور رحمت نیکوکاروں کے  
لئے۔

هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِیْنَ

4. Those who establish  
the prayer and give  
the poor-due and those,  
in the Hereafter, they  
have faith with  
certainty.

وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور  
ادا کرتے ہیں زکوٰۃ اور وہی ہیں  
آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں۔

الَّذِیْنَ یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ یُؤْتُوْنَ  
الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ  
یُوقِنُوْنَ

5. Those are on  
guidance from their  
Lord, and it is those,  
who are the successful.

یہی ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف  
سے اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہیں۔

اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ  
وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

6. And among mankind  
is he who purchases  
idle talks, that he may  
mislead from the way  
of Allah without  
knowledge, and takes  
it as mockery. Those,  
are, for them is a

اور لوگوں میں وہ ہے جو خریدلاتا ہے  
بیہودہ باتیں تاکہ گمراہ کرے اللہ کے  
راستے سے بغیر علم کے اور بناتا ہے  
اسے مذاق۔ یہی لوگ ہیں جن کے

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَّشْتَرِیْ هُوًّا  
الْحَدِیْثَ لَیْضِلَّ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ  
بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهَا هُزُوًا  
اُولٰٓئِكَ هُمُ عَذٰبٌ مُّهِیْنٌ

humiliating  
punishment.

7. And when are recited to him Our verses, he turns away in arrogance as if he has not heard them, as if in his ears there were a deafness. So give him tidings of a painful punishment.

لئے ہے عذاب ذلت والا۔

اور جب پڑھی جاتی ہیں اسکے سامنے ہماری آیات تو رخ پھیر لیتا ہے تکبر سے گویا کہ نہیں سنا انکو۔ جیسے کہ اسکے کانوں میں بہرا پن ہے تو خبر سنا دو اسکو دردناک عذاب کی۔

وَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَ لَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

8. Indeed, those who believed and did righteous deeds, for them are the gardens of delight.

9. They will abide therein. A promise of Allah in truth. And He is the All Mighty, the All Wise.

10. He has created the heavens without pillars, you see them, and He has set on the earth firm mountains lest it should shake with you, and He has dispersed therein all kinds of creature. And We sent down from the sky water, then We caused to grow therein all kinds of good things.

یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال انکے لئے ہیں باغ نعمت کے۔

وہ رہیں گے ان میں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ ہے غالب حکمت والا۔

پیدا کیا اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے دیکھتے ہو تم جنکو۔ اور ڈال دیئے اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ تاکہ نہ ڈولنے لگے تکلویکیر اور پھیلا دیئے اس میں ہر طرح کے جاندار۔ اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی پھر اگائیں اس میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ أَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

11. This is the creation of Allah. Then show me what have they created, those other than Him. But the wrongdoers are in error manifest.

یہ ہے تخلیق اللہ کی تو دکھاؤ مجھے کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے وہ جو اس کے سوا ہیں۔ بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ  
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ  
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾

12. And certainly, We gave Luqman wisdom, that give thanks to Allah. And whoever gives thanks, so indeed he gives thanks for his own self. And whoever is ungrateful, then indeed, Allah is Free of need, Owner of Praise.

اور یقیناً عطا کی ہم نے لقمان کو حکمت کہ شکر کر اللہ کا۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو بس وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی لئے۔ اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ  
اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا  
يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ  
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

13. And when said Luqman to his son, while he was advising him: O my son, do not associate with Allah. Indeed, association is a tremendous wrong.

اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ اسکو نصیحت کر رہا تھا اے میرے بیٹے نہ شریک کرنا اللہ کے ساتھ۔ یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔

وَ إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ  
يُعِظُهُ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ  
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

14. And We have enjoined upon man about his parents. Carried him his mother in weakness upon weakness, and his weaning is in two years. So give thanks to Me and to your parents. Unto Me is the journeying.

اور تاکید کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ اٹھانے رکھتی ہے جسے اسکی ماں تکلیف پر تکلیف سے اور دودھ چھڑانا ہے اسکا دو برس میں کہ شکر کرتا رہ میرا اور اپنے والدین کا۔ میری ہی طرف لوٹنا ہے۔

وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ  
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَ  
فِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَ  
لِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيبِ ﴿١٤﴾

15. And if they strive with you for that you associate partners with Me that you do not have of which any knowledge, then do not obey them, and accompany them in the world kindly. And follow the way of him who turns to Me. Then to Me will be your return, then I shall inform you of what you used to do.

اور اگر وہ کوشش کریں تجھ پر اسکی کہ تو شریک کرے میرے ساتھ وہ نہیں ہے تجھے جس کا کچھ علم تو نہ کہا ماننا ان کا۔ اور ساتھ دینا دونوں کا دنیا میں اچھی طرح۔ اور پیروی کرنا راستے کی اسکے جو رجوع کرے میری طرف۔ پھر میری طرف تکلو لوٹ کر آنا ہے تو تکلو آگاہ کر دوں گا وہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

16. O my son, indeed, if it should be equal to the weight of a grain of mustard seed, then should be in a rock, or in the heavens, or in the earth, Allah will bring it forth. Indeed, Allah is Subtle, Aware.

اے میرے بیٹے بیشک اگر ہو کچھ وزن میں برابر رائی کے دانے کے پھر ہو وہ کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں اللہ لے آئیگا اسکو۔ بیشک اللہ ہے باریک بین خبردار۔

يَبْنِيَّ إِنَّمَا إِنْ تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

17. O my son, establish the prayer and enjoin kindness and forbid iniquity, and bear with patience upon what may befall you. Indeed, that is of firmness in affairs.

اے میرے بیٹے قائم کر نماز اور علم دے نیک کام کا اور منع کر برائی سے اور صبر کر اس پر جو مصیبت تجھ پر پڑے۔ بیشک یہ ہے بڑی ہمت کے کاموں میں۔

يَبْنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

18. And do not turn in scorn your cheek toward people, nor

اور نہ ٹیڑھا کر اپنے گال لوگوں کے سامنے اور نہ چل زمین میں اڑ کر۔

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ

walk in the land exultantly. Indeed, Allah does not like each self-conceited boaster.

بیشک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اترانے والے شیخی خورے کو۔

اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

19. And be moderate in your walking, and lower your voice. Indeed, the dislikeable of the voices is the voice of the donkey.

اور اعتدال اختیار کر اپنی چال میں اور نیچی رکھ اپنی آواز۔ بیشک آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ گدھے کی آواز ہے

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

20. Did you not see that Allah has subjected for you whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And He has bestowed upon you His favors, apparent and hidden. And among mankind is he who disputes about Allah without knowledge, and without guidance, and without an enlightening book.

کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لئے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور عطا کر دی ہیں تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی۔ اور لوگوں میں وہ ہے جو جھگرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

21. And when it is said to them: Follow that which Allah has sent down, they say: But we shall follow that we found upon which our fathers. Even if Satan has been inviting them to the punishment of the blazing fire.

اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اسکی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے۔ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اسی کی ہم نے پایا جس پر اپنے باپ دادوں کو۔ بھلا اگرچہ شیطان بلاتا ہو انکو دوزخ کے عذاب کی طرف۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

22. And whoever surrenders his face to Allah, and he is a doer of good, then certainly he has grasped a firm support. And to Allah is the outcome of all matters.

اور جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے اور وہ ہوا نیکو کار تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا۔ اور اللہ کی طرف ہے انجام سب معاملات کا۔

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

23. And whoever disbelieves, so let not grieve you his disbelief. To Us is their return, then We shall surely inform them of what they used to do. Indeed, Allah is Aware of what is in the breasts.

اور جو کفر کرے تو نہ غمناک کر دے تمہیں اسکا کفر۔ ہماری طرف انکو لوٹ کر آنا ہے پھر ہم بتادیں گے انکو جو وہ کیا کرتے تھے۔ بیشک اللہ واقف ہے اس سے جو سینوں میں ہے۔

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾

24. We will provide them enjoyment of life for a little, then We shall drag them to a severe punishment.

ہم پہنچائیں گے انکو آسائش زندگی تھوڑی سی پھر ہم کھینچ لائیں گے انہیں عذاب شدید کی طرف۔

فَنُتَبِّئُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

25. And if you ask them: Who has created the heavens and the earth. They would certainly say: Allah. Say: All the praises be to Allah. But most of them do not know.

اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کمدو تمام حمد ہے اللہ کے لئے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

26. To Allah belongs whatever is in the heavens and in the earth. Indeed Allah,

اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ بیشک اللہ ہی

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾

He is Free of need, the Owner of Praise.

ہے بے نیاز لائق حمد۔

27. And if whatever are, on the earth, the trees (and they become) pens, and the ocean (ink), replenishing thereafter with seven more oceans, would not exhaust the words of Allah. Indeed, Allah is All Mighty, All Wise.

اور اگر جتنے ہیں زمین میں درخت (اور ہوجائیں وہ) قلم اور سمندر (سیاہی) - پھر ہوجائیں اسکے بعد سات اور سمندر تو نہ ختم ہوں باتیں اللہ کی۔ بیشک اللہ ہے غالب حکمت والا۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَ الْبَحْرُ يَمْدَةٌ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

28. Neither creating you all, nor raising you again is but as a single soul. Indeed, Allah is All Hearer, All Seer.

نہیں تمہارا پیدا کرنا اور نہ دوبارہ اٹھانا ہے مگر جیسے ایک شخص کا۔ بیشک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا۔

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

29. Have you not seen that Allah causes to enter the night into the day, and causes to enter the day into the night, and He has subjected the sun and the moon, each running to an appointed term, and that Allah is, of whatever you do, All Aware.

کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور مسخر کر رکھا ہے اسی نے سورج اور چاند کو۔ ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک اور یہ کہ اللہ ہے اس سے جو تم کرتے ہو باخبر۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوْجِئُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْجِئُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلَّ يَخْرُجِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾

30. That is so because Allah, He is the Truth, and that what they call other than Him is falsehood, and that

یہ اس لئے کہ اللہ ہی برحق ہے اور یہ کہ جس کو وہ پکارتے ہیں اسکے سوا وہ باطل ہے۔ اور یہ کہ اللہ ہی ہے

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

Allah, He is the Sublime, the Great.

31. Have you not seen that the ships sail through the sea by the favor of Allah, that He may show you of His signs. Indeed, in that are signs for every steadfast, grateful.

32. And when enshrouds them a wave like the canopy, they call to Allah, making sincere for Him their faith. Then when He delivers them to land, then some among them follow the middle path. And none denies Our signs except everyone who is treacherous ungrateful.

33. O mankind: Fear your Lord and fear a day when, shall not avail a father for his son, nor a son, he shall avail for his father anything at all. Indeed, Allah's promise is the truth. So let not deceive you the life of the world, nor let

عالیٰ رتبہ بڑائی والا۔

کیا نہیں تم نے دیکھا کہ جہاز چلتے ہیں سمندر میں مہربانی سے اللہ کی۔ تاکہ وہ تکو دکھائے اپنی کچھ نشانیاں۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس کے لئے جو صبر کرنے والا شکر کرنے والا ہے۔

اور جب چھا جاتی ہے ان پر موج سائبانوں کی طرح۔ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اسکے لئے اپنا دین۔ پھر جب وہ انکو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تو ان میں کوئی میانہ رو رہتا ہے۔ اور نہیں انکار کرتا ہماری نشانیوں سے مگر ہر وہ جو ہے عہد شکن ناشکرا۔

اے لوگو! ڈرو اپنے رب سے اور خوف کرو اس دن کا کہ نہ کچھ کام آئے باپ اپنے بیٹے کے اور نہ اولاد ہی کچھ کام آسکے اپنے باپ کے کچھ بھی۔ بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس نہ ڈالے دھوکے میں تم کو زندگی دنیا کی۔ اور نہ فریب دے تمہیں اللہ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٦١﴾

وَ إِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَ مَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٦٢﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاحْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنِ وَلَدِهِ وَ لَّا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ لَّا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ



deceive you about  
Allah, the deceiver.

34. Indeed Allah, with  
Him is knowledge of  
the Hour. And He  
sends down the rain.  
And He knows that  
which is in the wombs.  
And does not know  
any person, what it will  
earn tomorrow. And  
does not know any soul  
in what land it will die.  
Indeed, Allah is All  
Knower, All Aware.

کے بارے میں فرہی۔

یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت  
کا علم۔ اور وہی برساتا ہے بارش۔  
اور وہی جانتا ہے جو رحموں میں  
ہے۔ اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کیا  
وہ کمانے گا کل۔ اور نہیں جانتا کوئی  
نفس کہ کس سرزمین میں اسے موت  
آنے گی۔ بیشک اللہ ہے جاننے  
والا خبردار۔

الْغُرُورُ

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ  
وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي  
الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي  
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ  
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

